



## سوال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا جمعہ کے دن ہزار بار درود پڑھنے کی کوئی روایت موجود ہے۔؟

## جواب

### الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بعض دوسری روایات میں جمعہ کے دن درود پڑھنے کی ترغیب و تشویق ہے۔ شیخ صالح المنجد ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا روز ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی میں فوت ہوئے، اور اس دن ہی صور پھونکا جائے گا، اور اسی میں بے ہوشی ہوگی، لہذا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو مٹی بن چکے ہوں گے۔؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے" سنن ابوداؤد حدیث نمبر (1047)

امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن ابوداؤد کی تعلیقات میں اسے صحیح قرار دیا ہے (273/4) اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد حدیث نمبر (925) میں صحیح کہا ہے سنن ابوداؤد کی شرح عون المعبود میں ہے:

جمعہ کے روز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابھارا کہ یہ سب ایام کا سردار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے سردار ہیں، لہذا اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو فضیلت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
الاسلامية  
معدن فتوى  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

## فتاوى علمائے

### حدیث

### جلد 2 کتاب الصلوة